

ہیلتھ انشورنس پر مختصر حقائق برائے تارکین وطن



یہ 4 اہم چیزیں ہیں جنہیں NY State of Health کے لیے آپ کا جاننا ضروری ہے

1 آپ ہمیں جو حقائق فراہم کرتے ہیں ان کا اشتراک نہیں کیا جائے گا

آپ NY State of Health اور اس کے صلاحکاروں کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ نجی ہوتا ہے۔ آپ ہیلتھ پلان میں اندراج کے لیے ہمیں جو حقائق فراہم کرتے ہیں ان کا اشتراک کسی دیگر فرد کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اور انہیں کسی دیگر مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

2 آپ کو مدد ملے گی خواہ آپ یا آپ کے خاندان کے افراد کسی بھی طرح اس ملک میں آئے ہوں

یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس امیگریشن کے کاغذات نہیں ہیں، یا اگر آپ کے خاندان کے افراد اس ملک میں مختلف طریقوں سے آئے ہیں تو، آپ کو ہر ایک کے لیے صرف ایک درخواست پر کرنی ہے۔ اور خواہ آپ کی حیثیت کچھ بھی ہو، آپ بہر صورت ایمرجنسی میڈیکل اور اپنے بچوں کے لیے معمول کی صحت کی کوریج (جانڈ ہیلتھ پلس) حاصل کر سکتے ہیں۔

3 آپ کو متعدد زبانوں میں مدد حاصل ہوگی

- آپ کے فون کا جواب دینے والے لوگ متعدد زبانیں بولتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی زبان نہیں بولتے ہوں تو، وہ آپ کا رابطہ مترجم سے کروائیں گے۔
- ہم نے آپ کی برادری کے لوگوں کو تربیت دی ہے جو آپ کی زبان بولتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے گھر یا دفتر میں بھی آسکتے ہیں۔

4 آپ کو متعدد شکلوں میں مدد حاصل ہوگی

- آپ آن لائن، فون پر یا اپنے معاشرے میں ذاتی طور پر مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے تربیت یافتہ صلاح کاران آپ کو انتخاب کے ہر قدم پر اور کسی ہیلتھ پلان میں اندراج کروانے میں مدد کریں گے۔
- آن لائن اس پتے پر nystateofhealth.ny.gov
- بذریعہ فون 1-855-355-5777، TTY: 1-800-662-1220

NY State of Health
ہیلتھ پلانز کے لیے ایک آن لائن مارکیٹ پلیس ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنے کے لیے مارکیٹ پلیس میں آنا چاہیے کہ یہ کیا پیش کر سکتا ہے۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی۔ NY State of Health آپ کی مدد کر سکتا ہے۔



آن لائن اس پتے پر

nystateofhealth.ny.gov



بذریعہ فون

1-855-355-5777

TTY

1-800-662-1220